

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

| Sr | Questions | Answers Choice |
|----|--|---|
| 1 | خوراک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے | A. پانی B. موسم C. ماحول D. آب و ہوا |
| 2 | دنیا بھر میں انسان کی من پسند سبزی کون سی ہے | A. آلو B. ٹماٹر C. گوبھی D. پیاز |
| 3 | ایک اچھے فٹنگ کا لباس تیار کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے | A. لیور کی B. ڈرافٹنگ کی C. مناسب لباس کی D. پیمانے کی |
| 4 | لپسہ کی مشین کے دائیں ہاتھ اور کس کی شکل میں ہوتا ہے | A. راڈ نما B. لکڑی کی شکل کا C. پہننے کی شکل کا D. ترچھا |
| 5 | نمکیات کی تقریباً کتنی اقسام ہیں | A. دس B. بارہ C. سولہ D. اٹھارہ |
| 6 | کس جانور کے گوشت میں مکمل لحمیات پائی جاتی ہے | A. بھینس B. بیل C. مچھلی D. بکرے |
| 7 | حیاتی (د) کی یومیہ ضرورت پیدائش سے لے کر 20 سال تک کی عمر میں کتنی بین الاقوامی اکائیاں درکار ہوتی ہیں | A. 200 B. 400 C. 700 D. 900 |
| 8 | پاکستان کے بہت سے دیسی علاقوں میں کتنے وقت خوراک کھائی جاتی ہے | A. تین وقت B. چار وقت C. دو وقت D. پانچ وقت |
| 9 | کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن یہ چاروں کیمیائی اجزا ہمارے جسم کا تقریباً کتنے فیصد حصہ تعمیر کرتے ہیں | A. 69% B. 58% C. 59% D. 96% |
| 10 | غذا کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے | A. دولت کا B. عمر کا C. عقل کا D. صفائی کا |
| 11 | حرارت کس کی اکائی ہوتی ہے | A. وٹامن B. کام کی C. نسلستہ کی D. توانائی کی |
| 12 | سردی میں پہنے جاتے ہیں | A. سویٹر B. شلوار قمیض C. ریشمی قمیض D. سویٹر اور ریشمی قمیض |
| 13 | سب سے اہم فٹنگ ہوتی ہے | A. کمر کی B. کندھے کی C. اسٹین کی D. کوئی نہیں |
| 14 | پکانے کے مختلف طریقے کتنے ہیں | A. دو B. تین C. چار D. پانچ |
| 15 | انسان کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے | A. تعلیم B. کھیل C. لباس D. اچھی خوراک |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | بماری غذا میں کتنے گرام چکنائی شامل ہونی چاہیے | A. سے 40 گرام 20 B. سے 80 گرام 70 C. سے 50 گرام 30 D. سے 30 گرام 10 |
| 17 | مغربی طریقے سے کھانا پیش کرنے کا طریقہ استعمال ہوتا ہے | A. تھوڑے افراد کے لیے B. بہت تھوڑے افراد کے لیے C. دونوں کے لیے D. کوئی نہیں |
| 18 | کپڑوں کی منصوبہ بندی کا مقصد ہے | A. کم از کم B. زیادہ سے زیادہ C. نہ کم نہ زیادہ D. کوئی نہیں |
| 19 | پروٹین میں کیا کیشامل ہوسکتا ہے | A. لوہا اور آہٹین B. سلفر اور گندھک C. نائٹروجن D. فاسفورس |
| 20 | کس کو دھنا نہیں جاسکتا ہے | A. لینن کو B. سوئی ریشے کو C. سلک کو D. روئی کو |